

3rd Joint Working Group Meeting between India and Japan on MoC on Specified Skilled Workers

August 03, 2022

ہندوستان اور جاپان کے درمیان مخصوص ہنر مند کارکنوں کے حوالے سے ایم او سی پر مشترکہ ورکنگ گروپ کی تیسری میٹنگ

03 اگست، 2022

ہندوستان اور جاپان نے 2 اگست 2022 کو نئی دہلی میں مخصوص ہنر مند کارکنوں پر ہائبرڈ فارمیٹ میں مشترکہ ورکنگ گروپ کی تیسری میٹنگ کی۔ ہندوستانی وفد کی قیادت وزارت خارجہ میں جوائنٹ سکرپٹری (او آئی اے- I) جناب انوراگ بھوشن اور ڈاکٹر کے کے دویدی، جوائنٹ سکرپٹری، وزارت ہنر مندی اور انٹرپرائیورسپ نے کی اور اس میں نیشنل اسکال ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے نمائندے شامل تھے۔ جاپانی وفد کی قیادت امیگریشن سروسز ایجنسی کے اسسٹنٹ نائب وزیر جناب ناکاگوا سوتومو نے کی اور اس میں وزارت خارجہ، وزارت صحت، محنت و بہبود، وزارت زراعت، جنگلات اور ماہی پروری اور جاپان ٹورازم ایجنسی کے نمائندے شامل تھے۔ متعلقہ سفارتخانوں کے افسران نے بھی شرکت کی۔

2- ہندوستان اور جاپان نے جنوری 2021 میں مخصوص ہنر مند کارکنوں پر تعاون کی ایک یادداشت پر دستخط کیے تھے تاکہ ہنر مند کارکنوں کی مہارت اور جاپانی زبان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہندوستان سے جاپان معاہدہ کی بنیاد پر ملازمت کے لیے نقل و حرکت کو فروغ دیا جاسکے۔

3- جوائنٹ ورکنگ گروپ کی میٹنگ کے دوران، دونوں فریقین نے مخصوص ہنر مند کارکن کے تحت ہندوستان اور جاپان کے درمیان موجودہ تعاون کا جائزہ لیا اور اس بات پر اتفاق کیا کہ ہندوستان سے جاپان تک مخصوص ہنر مند کارکنوں کی تعداد کو بڑھانے کی کافی امکان موجود ہے۔ اس تناظر میں، انہوں نے موجودہ نظام میں درپیش چیلنجوں کی نشاندہی کر کے اور آگے بڑھنے کے بارے میں خیالات کا تبادلہ کر کے مخصوص ہنر مند کارکن پروگرام کے نفاذ کو مزید بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ میٹنگ کے دوران جن اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ان میں ڈیمانڈ سپلائی میچنگ بشمول ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور پلیٹ فارم کا استعمال، ہندوستان میں امتحانی مراکز کی تعداد میں اضافہ، عمل آوری کے شعبوں کو وسعت دینا، ہندوستان میں مخصوص ہنر مند کارکن پروگرام کے بارے میں بیداری پیدا کرنا، ہندوستان میں جاپانی زبان کو فروغ دینا، اور پروگرام کی نگرانی کے لیے ایک فریم ورک کا قیام شامل ہیں۔ جاپانی فریق نے اعلان کیا کہ نرسنگ/دیکھ بھال کے تحت موجودہ تعاون کے علاوہ، مخصوص ہنر مند کارکن کو بھی ہندوستان میں زراعت کے شعبے کا احاطہ کرنے کے لیے توسیع دی جائے گی۔ ہندوستانی فریق نے اس اعلان کا خیرمقدم کیا اور مخصوص ہنر مند کارکنوں کو دوسرے شعبوں میں بھی توسیع دینے پر زور دیا۔

4- دونوں فریقین نے مشترکہ ورکنگ گروپ کی اگلی میٹنگ مستقبل قریب میں باہمی طور پر مناسب وقت پر منعقد کرنے پر اتفاق کیا۔

نئی دہلی

03 اگست، 2022

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release.